

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو پانچ مہینوں کے لیے ٹیکسز کو مؤخر کرنے کی اجازت دے رہا ہے اور تمام جرمانے معاف کر رہا ہے

برامپٹن، آن (21 مارچ 2020) – آج سٹی آف برامپٹن نے کووڈ-19 کے ردعمل کے حصے کے طور پر 18 مارچ سے 19 اگست تک پانچ مہینوں کے لیے ٹیکسز کی ادائیگیوں پر سود اور تاخیر کی فیس کو معاف کر دیا۔ کونسل کی اگلی ملاقات پر اس فیصلے کی تصدیق کر دی جائے گی۔

سٹی کے ایمرجنسی منیجمنٹ پلان کے حصہ 3.8 کے تحت، کووڈ-19 کی عالمگیری وباء جیسے ہنگامی حالات میں سٹی کو ایسے اقدامات اٹھانے کا اختیار حاصل ہے، جو "سٹی آف برامپٹن کی حدود کے اندر زندگی، املاک، ماحول اور معیشت کے تحفظ کے لیے ضروری ہوں۔"

یہ قدم اور برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں تبدیلیوں کے حوالے سے اعلان کووڈ-19 کی ہنگامی حالت کے دوران اپنی کمیونٹی کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے کے لیے سٹی کی مسلسل ترجیحات کے مطابق ہیں۔

رہائشیوں اور کاروباروں کو درج ذیل پر توجہ دینی چاہیے:

- ٹیکسز کی 18 مارچ کو واجب الادا دوسری قسط اور 22 اپریل کو واجب الادا تیسری قسط پر کوئی بھی سود یا تاخیری فیس نہیں لگے گی۔
- اپنی اپریل کی قسط کے لیے سٹی کو آگے کی تاریخوں والے چیک بھیجنے والے لوگ، جو ادائیگی کو منسوخ کرنا چاہیں گے، 15 اپریل تک 311 پر کال کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔
- جن لوگوں نے 1، 15 اور 22 اپریل کے لیے اپنے بینک کے ذریعے پیشگی طور پر اپریل کی قسطوں کے لیے ٹیکس ادائیگیاں مجاز کی ہیں، وہ نکال لی جائیں گی۔ جن لوگوں نے مئی کے لیے ٹیکس ادائیگیاں پیشگی طور پر مجاز کی ہیں، وہ 311 پر کال کر کے اپنی قسط کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ پیشگی طور پر مجاز ادائیگی کو بعد کی کسی تاریخ پر دوبارہ جاری کروانے کے لیے، ادائیگی کرنے والے شخص کو دوبارہ سٹی کو درخواست دینی ہو گی۔
- سٹی کی جانب سے ٹیکس ادائیگیاں قبول کی جاتی رہیں گی اور ان پر عملدرآمد جاری رہے گا۔ ادائیگی کے انتخابات کی مکمل فہرست [یہاں](#) دیکھیں۔

کسی قسم کے سوالات کے لیے [اس فارم کو استعمال کریں](#)۔

اقتباسات

"برامپٹن کونسل ان معاشی مصائب اور مشکلات کو سمجھتی ہے، جو ہمارے رہائشیوں کو اس عالمگیر وباء کے دوران پیش آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پراپرٹی ٹیکسز ملتوی کرنے کے خواہشمند افراد کو پانچ مہینوں کے لیے بغیر جرمانے کے ایسا کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم نے صاف اور واضح طور پر سن لیا کہ معاشی مصائب کے اس عرصے کے دوران کمیونٹی ایسا ہی چاہتی تھی۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی نے اپنی کمیونٹی کی ضروریات کو سب سے اوپر رکھا ہوا ہے، خصوصاً اس مشکل وقت کے دوران۔ ہم برامپٹن کے رہائشیوں اور کاروباروں کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے فوری اور مؤثر طور پر ردعمل دے رہے ہیں۔ جبکہ سٹی کی سہولت گاہیں بند ہیں، کئی خدمات اور معاونتیں متبادل طریقوں سے دستیاب رہیں گی۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca